

کیا ابھی؟

وہ چیزیں جو آپ کے COVID-19 کے
ٹیسٹ کا نتیجہ آنے کے بعد ہوں گی



آپ کاشکریہ اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو اور نیویارک شہر کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے پر۔ مندرجہ ذیل وہ چند آئندہ اقدامات ہیں جن کی آپ کو ٹیسٹ کروانے کے بعد توقع کرنی چاہیے۔



1 میں نے COVID-19 کا ٹیسٹ کروانی ہے۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟

- ٹیسٹنگ پازیٹو والا فارم پُر کریں۔
- اکثر نتائج 48 گھنٹوں میں آجاتے ہیں۔
- یہ معلومات آپ کی صحت کے پریکٹیشنر یا پھر میڈیکل فیسلٹی سے آئے گی۔



2 اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آتا ہے:

- آپ کو COVID-19 سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں، جیسا کہ ماسک پہننا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا، ہاتھ دھونا اور اگر آپ خود کو بیمار محسوس کریں تو گھر پر رہنا۔
- اگر ایک کانٹیکٹ ٹریسر آپ سے کہے کہ آپ کو امکانی طور پر COVID-19 لگا ہے، تو جب تک یہ لوگ آپ کو باہر جانے کا نہ کہیں اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ گھر پر یا پھر ہوٹل میں محفوظ انداز میں دوسروں سے علیحدہ ہوجائیں۔



3 اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے:

- آپ کو کانٹیکٹ ٹریسر کی جانب سے ایک کالموصول ہوگی۔ اگر ان لوگوں کا آپ سے فون پر رابطہ نہیں ہو پایا تو وہ لوگ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر پر آئیں گے۔
- وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں گے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی معلوم کریں گے کہ آیا آپ کو محفوظ انداز میں علیحدہ رہنے کے لیے وسائل کی تو ضرورت نہیں ہے، جس میں ہوٹل میں مفت کمرہ یا پھر خوراک کی مفت فراہمی شامل ہیں۔
- ہوسکتا ہے کہ آپ وائرس پھیلانے کا باعث بنے ہوں، لہذا وہ آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے جن سے آپ کا قریبی رابطہ رہا ہو۔ ایسی فہرست تیار کر لیں جس میں ان افراد کے نام، فون نمبر اور پتے شامل ہوں جن سے آپ کا علامات شروع ہونے سے 2 دن قبل قریبی رابطہ رہا ہے (یا پھر آپ میں علامات نہیں تھیں تو ٹیسٹ کروانے سے 2 دن قبل)۔ اس عرصے کے دوران آپ جہاں جہاں گئے ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیوں کہ کانٹیکٹ ٹریسر آپ سے یہ معلومات بھی حاصل کرے گا۔
- کانٹیکٹ ٹریسر آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ سے مسلسل رابطے میں رہے گا۔
- مفت میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کنندہ سے بات کرنے کے لیے اس نمبر 212-COVID19 پر کال کریں ہنگامی طبی ضروریات کے لیے، کال کریں 911۔

